آفاقی معلومات کا علمبردار

ماہنامہ روحانی

آئینہ قسمت

فروری ۲۰۱۳

سید انتظار حسین شاہ

بیاد حضرت میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ پیر بھائی حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور

A.B.C سے باقاعدہ منظور شدہ اشاعت

ماہنامہ روحانی آئینہ قسمت ® لاہور
آئینہ حقیقت کا علمبردار

جلد نمبر 65 | FEBRUARY 2013 | شمارہ نمبر 11

بانی ادارہ منجم اعظم الحاج سید ناظر حسین شاہ زنجانی

جانشین خاندان زنجانیہ عالیہ
شہزادہ سیّد مصوّر علی شاہ زنجانی
شہزادہ سیّد محمد علی شاہ زنجانی
شہزادہ سیّد محسن علی شاہ زنجانی

چیف ایڈیٹر
شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی

ایڈیٹر
شہزادہ سید مصور علی زنجانی

سب ایڈیٹر
شہزادہ حافظ سید محسن علی زنجانی

مینجنگ ایڈیٹر
شہزادہ سید محمد علی زنجانی

اعزازی ایڈیٹر
ڈاکٹر اعجاز حسین بٹ

مجلس مشاورت
- مخدوم سید حسن پیر قادری
- مخدوم سید طاہر سجاد زنجانی
- چودھری واجد علی خان
- کرنل (ر) سید اکبر علی شاہ
- میجر (ر) خالد اسمٰعیل قاضی
- ڈاکٹر اجمل نیازی
- شجاعت ہاشمی (آرٹسٹ)
- وسیم جعفری
- افتخار احمد (جیو)
- علامہ صمصام الدین
- پروفیسر توفیق بٹ
- محمد سلیم نقشبندی

مشیر قانونی
طالب علی غضنفر ایڈووکیٹ
محمد عامر چوہان ایڈووکیٹ

کمپوزنگ
شہزاد شاکر۔ منصور احمد

سرکولیشن مینیجر
منظور علی

معاون
عبد العزیز











قیمت 60 روپے
سالانہ چندہ 650 روپے
لائف ممبرشپ 7500 روپے
لائف ممبرشپ 800 ڈالر
For 12 Years

بیرون ممالک سالانہ چندہ
مڈل ایسٹ 6000 روپے
انڈیا، ایران، سری لنکا 6000 روپے
یورپ، فار ایسٹ 7000 روپے
امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا 8000 روپے

کاشانہ زنجانی D-125 گلبرگ II لاہور
فون: 042-35752277, 35872277 فیکس: 042-35755253
موبائل: 0300-9483758

کاشانہ زنجانی آرام باغ روڈ کراچی 74200
فون: 021-32217544

آئینہ قسمت میں چھپنے والے مضامین بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ بغیر اجازت شائع
کرنا قانوناً جرم ہے۔ کسی بھی ایسے فرد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

سید انتظار حسین زنجانی ایڈیٹر/ پبلشر نے حیدری پریس ریلوے روڈ لاہور سے چھپوا کر کاشانہ زنجانی D-125 گلبرگ 2 لاہور سے شائع کیا

منقبت

مظہر بھوپالی

آج جشنِ حیدرِ کرارؓ ہے
جو ہمارا مالک و مختار ہے
پڑھ رہے ہیں آپ جو صلے علیٰ
اُن سے اُلفت کا یہی اظہار ہے
فاطمہ بنت اسد کی گود میں
دین و دنیا کا یہی سردار ہے

حدیثِ قدسی

"گناہ" حدیثِ قدسی ہے کہ

جب انسان ہر کسی سے چھپ کے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔۔۔ اے ابنِ آدم! تجھے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ میں ہی حقیر نظر آیا کہ سب کے ڈر سے سے چھپ کر گناہ کرنا گوارا کیا۔ صرف مجھ (اللہ) سے چھپانا گوارہ نہیں کیا۔



حمد

امجد علی سرورؔ

اس کے فیض عام کے سائل سبھی
صاحبِ لطف و عطا کوئی نہیں
خالق و مالک تو ہی رزاق بھی
نازش جود و سخا کوئی نہیں
اک تری ہی ذات ہے ترے سوا
لائقِ حمد و ثنا کوئی نہیں
بیکسوں نادار کا ربِّ کریم
خلق میں مشکل کشا کوئی نہیں
تحفۂ فن سے نوازا ہے مجھے
ورنہ مجھ کو جانتا کوئی نہیں
تجھ سے قائم رہنمائی کا چراغ
ہم کو رستوں کا پتا کوئی نہیں
ماسوا خلقت میں ہے ربِّ جہاں
راز سرور پہ کھلا، کوئی نہیں



نعت

افروز عالم

عقل و شعور و فکر کے محور حضورؐ ہیں
خوش رنگ حسن و خوبی کے پیکر حضورؐ ہیں
آتی ہیں آفریں کی صدائیں سماعت میں
ہر صاحب شعور کے دلبر حضورؐ ہیں
وہ جس کی صاف گوئی کا چرچا ہے ہر طرف
سارے جہاں کے ہادیؐ کو رہبر حضورؐ ہیں
وہ روحِ کائنات ہیں وہ رحمتِ جہاں
صبر و رضا کے گویا سمندر حضورؐ ہیں
ہر لحہ ان کے ذہن میں امت کی فکر تھی
سب کے لیے وہ رحم کے پیکر حضورؐ ہیں
ہر رونقِ خیال ضیا بار اُن سے ہے
ہر فلسفہ سے زیست کے زیور حضورؐ ہیں
عالم کے گوشے گوشے میں رونق بڑھی ہے جہاں
وہ شہر علم مہر منور حضورؐ ہیں

Scanned with CamScanner



دربارِ مصطفائی کا روحانی فیض

نظراتِ سیّارگان کے عملیات برائے ماہِ فروری 2013ء

آسمانی کونسل میں نظرات سیارگان کی عملیات وتعویذات کی تیاری میں ایسے ہی اہمیت رکھتی ہے جیسے جسم میں روح کی ہو۔ مندرجہ ذیل اوقات تربیع میں نحس اعمال جبکہ تسدیس' تثلیث اور قران (بشرطیکہ قران نحس کواکب کا نہ ہو) میں سعد اعمال کیے جاتے ہیں۔

قارئین آئینہ قسمت! چند سال سے آپ نے' اس کالم میں تبدیلی محسوس کی ہوگی۔ نظر سیارگان کی ابتداء' انتہا اور خاتمہ کے اوقاتِ عملیات کو شامل کر کے ہم نے عاملین' شائقین عملیات کے لئے آسانی پیدا کر دی ہے۔ اب یہ الجھن ختم ہوگئی کہ فلاں سیارے کی نظر کب بن کر کب ختم ہوگی۔ اب عملیات کی تیاری میں پورے پورے وقت سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ نقشہ ساعت (جو اگلے صفحہ پر ہے) سے جو ہر دن طلوع آفتاب سے شروع ہوتی ہے اپنے شہر کے طلوع آفتاب سے متعلقہ ستارے کی ساعت دیکھ کر اس ساعت میں تیار کیا گیا عمل اور بھی مؤثر ہو جاتا ہے۔ سالنامہ زنجانی جنتری 2013ء میں بھی ہم نے اہم سالانہ نظرات سیارگان تفصیلی درج کئے ہیں۔ ہماری خدمت باعث فخر تبھی بن سکتی ہے جب آپ وقتاً فوقتاً اپنے تبصروں سے نوازتے رہیں۔

عامل شاہ زنجانی

کسی بھی عمل کی ابتداء سے پہلے 2 رکعت نماز اجالا ہدیہ روح حضرت رسالت پناہ ﷺ مع سائر انبیاءؑ' عظامؒ اور اولیاء کرامؒ پڑھیں۔ پھر مخصوص بہ نیت رجال الغیب مردان خدا جس سمت یہ اس روز کھڑے ہوں ان کی طرف باادب رخ کر کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس سمت کھڑی کر کے درج ذیل دعا مع ایک بار بسم اللہ شریف پڑھ کر سات بار پڑھیں۔ رجال الغیب کی تواریخ کا چارٹ حسب ذیل ہے۔ عمل کرتے وقت رجال الغیب کی جانب اپنی پشت رکھیں۔

جنوب مشرق 24`16`09`01	جنوب مغرب 25`17`10`02	جنوب 26`18`11`03	مغرب 27`19`12`04
شمال مغرب 00`20`13`05	شمال مشرق 28`21`00`06	مشرق 29`22`14`07	شمال 30`23`15`08

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیۡکُمۡ یَا رِجَالُ الۡغَیۡبِ وَیَا اَرۡوَاحُ الۡمُقَدَّسَۃ اَعِیۡنُوۡنِیۡ بِقُوَّۃٍ وَ انۡظُرُوۡنِیۡ بِنَظۡرَۃٍ یَا رُقَبَاءُ یَا نُقَبَاءُ یَا نُجَبَاءُ یَا اَبۡدَالُ یَا اَوۡتَادُ یَا قُطۡبُ یَا غَوۡثُ اَعِیۡنُوۡنِیۡ بِحُرۡمَۃِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصۡحَابِہٖ اَجۡمَعِیۡنَ

روحانی ماہنامہ آئینہ قسمت میں تمام اعمال نیک نیتی کی بناء پر عاملین وقارئین کے استفادہ کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ جائز کام میں تو اللہ اور اس کا رسولؐ بھی مدد کرتے ہیں۔ ناجائز عمل کرنے سے باز رہیں ورنہ سخت رجعت بھی ممکن ہے۔ بہر حال جب بھی کوئی عمل کریں تو لازم ہے کہ عمل کی رجعت سے بچنے کے لئے 6 کلو چینی' ایک کلو سوجی یا بارہ کلو باجرہ دو کلو چاول اپنے سر سے وار کر رکھ لیں۔ بعد از عمل استعمال سے پہلے کسی بھی قبرستان جا کر عامل شاہ زنجانی کا اور اپنا اہلِ قبور کو سلام عرض کریں اور فاتحہ خوانی کر کے درختوں کی جڑوں میں حشرات الارض کو صدقہ ڈال دیں اور صدقہ ڈالنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ یہ صدقہ صرف ایک عمل کے لئے ہے۔ دوسرے عمل کے لئے علیحدہ صدقہ دیں۔

ساعات کی ترتیب آپ کے شہر کے طلوع آفتاب سے شروع ہوتی ہے۔

شمار	پہلی								دوسری							تیسری							چوتھی	
دن	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
اتوار	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد
پیر	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری
منگل	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ
بدھ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل
جمعرات	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس
جمعہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
ہفتہ	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ

تثلیث زہرہ مشتری: اس سعد وقت کی ابتداء 6 فروری 15 بجکر 25 منٹ، تکمل نظر 7 فروری 10 بجکر 57 منٹ اور خاتمہ نظر 8 فروری 6 بجکر 33 منٹ پر ہوگا۔ حصولِ دولت، انعام، پسندیدہ جگہ شادی، الفت ومحبت بڑھانے کے لیے سورۃ یوسف کا خالی البطن نقش لکھ کر با پرہیز پاس رکھیں۔

۷۸۶		
۱۲۵۹۹۴	۳۳۵۹۸۸	۴۱۹۹۸
۲۹۳۹۹۰	یہاں مقصد لکھیں	۲۰۹۹۹۰
۸۳۹۹۶	۱۶۷۹۹۲	۲۵۱۹۹۲

ذبل قران عطارد مریخ: اس عجیب وغریب وقت کی ابتداء 7 فروری 19 بجکر 18 منٹ، تکمل نظر 8 فروری 22 بجکر 57 منٹ اور خاتمہ نظر 10 فروری 4 بجکر 7 منٹ پر ہوگا۔ اسی ماہ قائم ہونے والی دوسری نظر کی ابتداء 25 فروری 18 بجکر 7 منٹ، تکمل نظر 26 فروری 14 بجکر 9 منٹ اور خاتمہ نظر 27 فروری 8 بجکر 25 منٹ پر ہوگا۔ اس دوران اچھے اعمال اور برے اعمال جنہیں آپ عدلِ الٰہی کے تحت جائز سمجھتے ہوں اور حاسدین کو زیر کرنا مقصود ہو تو کر سکتے ہیں۔ سورۃ کوثر کا خالی البطن نقش باپرہیز لکھ کر پاس رکھیں یا پھلدار درخت سے لٹکائیں۔

(نقش آگے دیا جارہا ہے)

تربیع عطارد مشتری: اس نحس وقت کی ابتداء 9 فروری 2 بجکر صفر منٹ، تکمل نظر 9 فروری 17 بجکر 8 منٹ اور خاتمہ نظر 10 فروری 8 بجکر 33 منٹ پر ہوگا۔ دشمنوں کو ذلیل وخور کرنے کے لیے اگر اشد ضروری ہو تو سورۃ لہب کے خالی البطن نقش سے استفادہ کریں۔ ناجائز ہرگز نہ کریں۔

۷۸۶		
۱۴۵۵	۲۸۸۶	۴۸۵
۳۴۰۱	یہاں مقصد لکھیں	۲۴۲۵
۹۷۰	۱۹۴۰	۲۹۱۶

تربیع مریخ مشتری: اس نحس وقت کی ابتداء 9 فروری 5 بجکر 25

نوٹ: جو بہن بھائی خود یہ اعمال نہ کرسکیں۔ وہ شاہ زنجانی سے رجوع کریں۔

منٹ، مکمل نظر 10 فروری 13 بجکر 12 منٹ اور خاتمہ نظر 11 فروری 21 بجکر 10 منٹ پر ہوگا۔ حاسدین، مخالفین کو عذاب الٰہی میں مبتلا، پریشان کرنے کے لیے سورۃ لیل کا خالی البطن نقش ساعت مریخ میں لکھ کر احاطہ قبور میں اہل قبور کو سلام، فاتحہ و دعا کر کے دفن کریں۔

۷۸۶		
۱۴۶۴	۳۹۰۷	۶۸۸
۳۴۱۹	یہاں مقصد لکھیں	۲۴۴۰
۹۷۶	۱۹۵۲	۲۹۳۱

تربیع زہرہ زحل: اس نحس وقت کی ابتداء 10 فروری 16 بجکر 20 منٹ، مکمل نظر 11 فروری 11 بجکر 42 منٹ اور خاتمہ نظر 12 فروری 7 بجکر 4 منٹ پر ہو گا۔ حاسدین، مخالفین میں فتنہ و فساد، ناجائز تعلقات خاتمہ کے لیے سورۃ مائدہ کے خالی البطن نقش کو ساعت زحل میں لکھ کر اہل قبور کو سلام و فاتحہ کر کے احاطہ قبور میں دفن کریں، ناجائز ہرگز نہ کریں۔

۷۸۶		
۲۱۲۱۳۶	۵۶۵۶۹۸	۷۰۷۱۲
۴۹۴۹۸۶	یہاں مقصد لکھیں	۳۵۳۵۶۰
۱۴۱۴۲۴	۲۸۲۸۴۸	۴۲۴۲۷۴

تثلیث عطارد زحل: اس سعد وقت کی ابتداء 12 فروری 7 بجکر 23 منٹ، مکمل نظر صفر بجکر 15 منٹ اور خاتمہ نظر 13 فروری 17 بجکر 47 منٹ پر ہوگا۔ برائے حل المشکلات ہر قسم کے لیے نقش نادعلیؑ با پرہیز لکھ کر گلے میں پہنیں۔ صدقہ مشکل کشاء تمام مشکلیں آسان ہوں گی۔




تثلیث مریخ زحل: اس سعد وقت کی ابتداء 15 فروری 14 بجکر 36 منٹ، مکمل نظر 16 فروری 21 بجکر 14 منٹ اور خاتمہ نظر 18 فروری 3 بجکر 48 منٹ پر ہو گا۔ ترقی زراعت، باغبانی، گھریلو خوشحالی کے لیے خالی البطن نقش سورۃ یٰسین سے فیض یاب ہوسکتے ہیں۔ نقش لکھ کر پھلدار درخت سے دعا کر کے لٹکائیں۔

۷۸۶		
۵۵۳۵۰	۱۴۷۶۱۰	۱۸۴۵۰
۱۲۸۱۶۰	یہاں مقصد لکھیں	۹۲۲۵۰
۳۶۹۰۰	۷۳۸۰۰	۱۱۰۷۱۰

تربیع شمس مشتری: اس نحس وقت کی ابتداء 1 بجکر 24 منٹ، مکمل نظر 26 فروری 3 بجکر 26 منٹ اور خاتمہ نظر 27 فروری 5 بجکر 35 منٹ پر ہوگا۔ دشمنوں کی کاروباری بندش کرنے کے لیے ضروری ہو تو ساعت مریخ میں سورۃ کوثر کے خالی البطن نقش سے استفادہ کریں۔

۷۸۶		
۶۸۷	۱۸۳۸	۲۲۹
۱۶۰۹	یہاں مقصد لکھیں	۱۱۴۵
۴۵۸	۹۱۶	۱۳۸۰

Scanned with CamScanner



از تحریر: حکیم سرفراز احمد زاہد، ملتان

کمالاتِ جفر (زہرہ مشتری تثلیث)

تسخیرِ خلائق و رجوعات حسب منشا شادی و حاضری

سابقہ سال ماہ دسمبر 2012ء میں ایک روحانی سفر ملتان سے راولپنڈی ہوا، سالانہ چھٹیاں بچی تھیں۔ سوچا ان کو زیر استعمال لایا جائے، راولپنڈی میں جس مقصد کے لیے گیا تھا اس کو پورا کرنے کے بعد ایک رات کا قیام اسلام آباد میں اپنے محترم و معظم دوست جناب سید ابوالحسن موسوی صاحب کے پاس رہا۔ موسوی صاحب بہت صاحب علم ہیں۔ ان کے پاس بہت وسیع لائبریری ہے۔ جس میں عربی فارسی میں ایران مصر کی عملیات اور جفر کی اصل کتب موجود ہیں۔ موجودہ دور کے عاملین نے دیکھنا تو درکنار ان کے نام بھی نہ سنے ہوں گے۔ یہ وہی کتب ہیں جن کو سامنے رکھ کر رموز جفر اور عامل کامل جیسی کتابیں مرتب کی گئیں تھیں۔ حضرت بہاؤ الدین عاملی سید ابوالفتاح طوفی امام غزالیؒ کے شاہکار موجود ہیں۔ غیر عملیات پر تحقیق ہوتی ہے اور ہم آپس میں تبادلہ خیال برائے ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور پہنچا اور ہوٹل میں قیام کیا۔ 4 دسمبر 2012ء کو آفس آئینہ قسمت پہنچا اور زنجانی صاحب سے ملاقات کے لیے شاہ صاحب کراچی گئے ہوئے تھے۔ شہزادہ سید معظم علی زنجانی نے بہت عزت افزائی کی، مضامین پر بات چیت کے دوران شہزادہ سید معظم علی زنجانی صاحب نے فرمایا۔ انکل! کچھ عرصہ پہلے ایک عامل کا فون آیا کہ حکیم سرفراز نے میرے اوپر تنقید کی ہے اور دوسرے رسالہ میں میرا نام لے کر تنقید کی ہے۔

بات یہ ہے کہ تنقید کسی کی ذات پر نہیں ہوتی بلکہ علم پر ہوتی ہے اور علمی تنقید معیاری ہوتی ہے۔ بجائے ناراض ہونے کے اگر اس میں اصلاح کا پہلو دیکھا جائے تو وہ آئندہ سفر میں بہتری کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ علامہ شاد گیلانی مرحوم، بابر سلطان قادری علیہ الرحمۃ، شاہد الیاس سلیمی مرحوم، عتیق الرحمن صاحب، داؤد بلوچ صاحب، صفدر گھوری صاحب اور فیصل آباد کے برادران۔ یہ لوگ مضمون نگاروں کی نگارشات کا اس طرح پوسٹ مارٹم کرتے تھے کہ ماتھوں پسینہ آتا تھا اور دلائل کے ساتھ مضمون کی چیر پھاڑ ہوتی تھی۔

اس بات سے اہل دانش بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی انسان کے دل کو اپنے لیے مسخر کرنا کتنا مشکل ہے۔ خاص کر عاملین کو اس سے کافی تعلق ہے۔ لیکن اساتذان کرام بھی اس نقطہ سے باہم متفق ہیں کہ بعض اصول ایسے ہیں جو پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ جن کی قوت تاثیر سے صاحب جفر اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ بعض دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور بعض تحریریں مخفی کر دیتے ہیں۔ میں چونکہ اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، جس کا مشن ہے کہ اگر کوئی راز آشکارہ کرنا چاہتے ہو تو بخل اور بغیر کسی پابندی یا روایتی فقرہ سے (کہ نااہلوں سے پوشیدہ رکھو) ہٹ کر کم و بیش بتا دو۔ گناہ ثواب کرنے والے پر ہے، بار بار ایسے فقرے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو انٹرنیٹ پر بے شمار سائٹس کھلی ہیں، جہاں سے اعلیٰ سے اعلیٰ عمل حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے لکھنے سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حدود و قیود رکھی ہوئی ہیں۔ ناجائز کرنے والا انشاء اللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہرحال

6 فروری کو زہرہ مشتری کی تثلیث ہو رہی ہے۔

زہرہ محبت کا ستارہ ہے اور مشتری مال کا۔ دونوں سعد ستارے ہیں، نظر تثلیث بڑی سعد ہوتی ہے۔ اس وقت دو قسم کے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت کی تاثیر سے دو دل ایک ہو سکتے ہیں۔ دشمنی نفرت کدورت محبت اور پیار میں تبدیل ہو سکتی ہے، افسرانِ بالا کی تسخیر ہو سکتی ہے۔ کسی جگہ خصوصاً شادی کا ارادہ ہو اور فریق ثانی یا اس کے والدین یا کوئی اور قریبی رشتہ دار درمیان میں رکاوٹ ہو تو اسے راضی کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، بیوی اگر روٹھ کر چلی گئی ہو تو اسے واپس بلایا جا سکتا ہے۔ گھر سے کوئی بھاگ گیا ہو، وہ واپس لازمی آئے گا، میاں بیوی میں چاہے طلاق کی خاطر عدالت تک نوبت چلی گئی ہو۔ اس کو دوبارہ سنبھالا جا سکتا ہے۔

دوسرا اس سعد نظر میں کام یہ لیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا تعلق براہِ راست عوام الناس سے ہو۔ مثلاً ڈاکٹر، اطباء، وکلاء، دکاندار، پراپرٹی ڈیلر اور روحانی عاملین ایسے لوگ عوام الناس کو اپنی طرف متوجہ کرنے زیادہ سے زیادہ مخلوق کی تسخیر کے لیے تسخیر رجوعاتِ مخلوق کا کام لے سکتے ہیں۔ اس وقت ایک خاص تسخیر مطلوب کا جفری شاہکار پیش کر چکا ہوں۔ یہ عمل پہلے بھی پیش کر چکا ہوں۔ طریقہ یہ ہے۔ یہ عمل بہت پُر تاثیر ہے۔ مثال سے سمجھا رہا ہوں۔

طالب مع والدہ: ۱۱۳۴

مطلوب معہ والدہ: ۸۲۸

جاذب: ۷۰۶ مجذوب: ۷۵۱

حبیب: ۲۲ مطیع: ۱۲۹

طالب: ۱۱۳۴ + ۷۰۶ = ۱۸۴۰ × ۲۲ = ۴۰۴۸۰

مطلوب: ۸۲۸ + ۷۵۱ = ۱۵۷۹ × ۱۲۹ = ۲۰۳۶۹۱

عددِ آیت = والقیت علیک تا عینی (سورۃ طٰہٰ ۲۹) = ۲۱۲۳

جمع ہر سہ: ۴۰۴۸۰ + ۲۰۳۶۹۱ + ۲۱۲۳ = ۲۴۶۲۹۴ عدد نمبر ۱

عدد لفظ محبت: ۴۵۰ × ۱۹ = ۸۵۵۰

عدد لفظ شدید: ۳۱۸ × ۱۵ = ۴۷۷۰

مجموعہ: ۸۵۵۰ + ۴۷۷۰ = ۱۳۳۲۰ عدد نمبر ۲

عدد نمبر 1 اور عدد نمبر 2 تفریق کریں۔

۲۴۶۲۹۴ ـ ۱۳۳۲۰ = ۲۳۲۹۷۴ + ۴ = ۵۸۲۴۳ ـ ۲ باقی

نقش پُر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو خانوں میں عدد محبت جمع ہوں گے، دوسرے دو خانوں میں عدد شدید جمع ہوں گے۔

۸	۱۱		۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۵	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۴

جبرائیل

۳۱۸ ۶۱۳۱۵	۳۱۸ ۶۲۵۳۴	۴۵۰ ۶۳۷۵۲	۴۵۰ ۵۸۶۹۳
۴۵۰ ۶۳۳۰۲	۴۵۰ ۵۹۱۴۳	۳۱۸ ۶۰۹۹۷	۳۱۸ ۶۲۸۵۲
۳۱۸ ۵۹۴۶۱	۳۱۸ ۶۴۳۸۸	۴۵۰ ۶۱۷۶۶	۴۵۰ ۶۰۶۷۹
۴۵۰ ۶۲۲۱۶	۴۵۰ ۶۰۲۲۹	۳۱۸ ۵۹۷۷۹	۳۱۸ ۶۳۰۷۰

حمعسق عزرائیل

کھیعص اسرافیل

یہ نقش ساعت زہرہ میں لکھیں، مطلوب مطیع ہوگا۔ تعویذ سبز رنگ کے کپڑے میں سلائی کر کے اپنے پاس طالب رکھے یا بازو پر باندھے۔ لیکن بہتر ہے چاروں عناصر کے مطابق نقوش استعمال کرے۔ نیچے عزیمت بھی لکھے۔



کراماتِ جفر

از تحریر: محمد اسد اللہ سلیمانی چشتی نظامی، جھنگ

شرفِ مشتری کا خصوصی عمل "لوحِ سلطانی"

قارئین اس سال مشتری کے سعد ترین شرف ہوگا۔ کیونکہ ایسے سعد ترین اوقات بار بار نہیں آیا کرتے۔ کیونکہ دولت، رزق، انعامی اسکیموں میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے مشتری کا شرف میں ہونا بہت مبارک ہے۔ ماہرین جفر کامل کاملین ایسے سعد وقت کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ آج کی محفل میں قارئین کی خدمت میں لوح سلطانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اور وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تو لوح سلطانی کو بنوا کر پاس رکھیں۔ انشاء اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔

فوائد لوح سلطانی

اس لوح مبارکہ کو اپنے پاس رکھنے سے مال و دولت میں بے حد اضافہ ہوگا، کاروبار دن بدن ترقی کرے گا، انعامی بانڈز کے علاوہ ہر طرح کے ملکی و غیر ملکی انعامی اسکیموں میں فائدہ ہوگا، قرضہ سے نجات ملے گی، ہر کام میں برکت اور فتح حاصل ہوگی، گھریلو سکون حاصل ہوگا اور جھگڑوں سے نجات ملے گی، ستاروں کی نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا، سحر و جادو ٹونہ، سایہ و آسیب سے حفاظت رہے گی۔ بیماریوں سے نجات ملے گی، مقدمات میں یقینی کامیابی ہوگی، ہر جگہ عزت و شہرت بڑھے گی، حصولِ ملازمت میں کامیابی ہوگی، عہدہ میں خوب ترقی ملے گی، بیرونِ ملک ویزہ و سفر میں کامیابی ہوگی، دشمن سے حفاظت رہے گی، میاں بیوی میں محبت دن بدن بڑھے گی، اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اچھی جگہ رشتہ مل جائے گا۔ ہر طرح کے مصائب و تفکرات سے نجات ملے گی، ہر طرف سے خوشحالی ملے گی، اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ جس کے پاس ہوگی اسے خود ہی محسوس ہوں گی۔

ترکیب استعمال

لوح مبارکہ کو مشتری کی ساعت میں خوشبودار بخور جلا کر سفید کاغذ پر زعفران و عرق گلاب سے اور رجال الغیب کا خاص خیال رکھیں اور علیحدہ، پاک و صاف کمرہ کا انتخاب کرنا ضروری ہوگا۔ لوح سلطانی کو تیار کرنے کے بعد اول و آخر 110-110 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تین مرتبہ سورۃ یوسف پڑھیں اور لوح پر دم کر دیں اور اسی طرح سات یوم کریں۔ پھر حضرت یوسفؑ و حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کی ایک کلو مٹھائی لے کر نیاز دیں اور بچوں میں بانٹ دیں۔ انشاء اللہ تھوڑے ہی دنوں میں لوح مبارکہ کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ لیکن لوح مبارکہ کو چاندی میں بند کرا کے پاس رکھیں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

جبرائیل قولہ — جبرائیل — الحق میکائیل

الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم
الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم
الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم
الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم
الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم
الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم
الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم
الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم	الله حم

میکائیل

وکفیٰ باللہ شہیدا محمد رسول اللہ

حصولِ انعام کا خصوصی عمل

قارئین کی خدمت میں اب حصولِ انعام کا مجرب عمل لے کر حاضر ہوں۔ جو مالی لحاظ سے پریشان ہوں اور ساتھ دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہو اور لوگوں سے قرض لے کر گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہو رہے ہیں تو انشاء اللہ یہ عمل آپ کو ایک دفعہ مالا مال کر دے گا۔ لیکن دوسری دفعہ لالچ انسان کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کیونکہ لالچی طبیعت والے انسان بھی کامیاب اول تو ہوتے ہی نہیں۔ اگر ہو جائیں تو ہاتھ میں آئی ہوئی چیز ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ لکھتا آیا ہوں۔ میرے حصول انعام کے عملیات صرف ایک بار انعام اٹھا کر کاروبار کر لیں تا کہ کسی کے آگے آپ کو گھر کے اخراجات وغیرہ پورے کرنے کے لیے قرضہ نہ اٹھانا پڑے۔ ورنہ مشاہدہ آخر ہو ہی جاتا ہیں۔ میرا حصول انعام کے عملیات لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بے روزگار میں مالی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ آج تک ایسے صدری عملیات حصولِ انعام کے کبھی کہیں نہیں شائع ہوئے ہیں۔ قارئین اس عمل کی برکت سے پرائز بانڈ کے فسٹ، سیکنڈ نمبر، انگلینڈ، افریقہ کی نیشنل لاٹریاں، سعودی عرب، قطر، تھائی لینڈ، دبئی اور ٹی وی وغیرہ پر ہونے والی لاٹریاں اور روزمرہ ہونے والی ملکی وغیر ملکی انعامی اسکیموں میں کامیابی کے لیے اور درست ترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔

عمل کا طریقہ یوں ہے کہ نوچندی پیر یا جمعرات کو ساعت مشتری یا قمر کے سعد اوقات میں جب قمر در عقرب نہ ہو، شروع کریں۔ علیحدہ، پاک وصاف جگہ ہونی چاہیے اور خوشبودار بخور روشن کریں اور رجال الغیب سامنے کی طرف نہ ہو۔ پھر تین سو پچاس روپے کی مٹھائی جو پہلے سے موجود اور حضرت امام حسینؓ کی نیاز دلوائیں اور بچوں میں بانٹ دیں۔ اسی طرح سات یوم پورے احتیاط سے پورے کرنے ہیں اور روزانہ عبارت عمل 360 مرتبہ پڑھ کر نقش مبارک پر دم کرتے رہیں۔ اب تیار ہے۔

پھر جب بھی انعامی اسکیموں کے نمبر کی ضرورت ہو تو رات سونے سے پہلے دو رکعت نفل حاجت پڑھیں۔ لیکن نقش مبارک آپ کی جیب میں موجود ہونا چاہیے۔ پھر عبارت عمل 360 مرتبہ اول و آخر 110-110 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر سو جائیں۔ انشاء اللہ 3 تا 7 یوم میں بالکل درست اور اصل نمبر ملے گا اور صبح ہونے تک بالکل یاد رہے گا۔ یہ کسی اور کو نہ بتائیں اور خرید کر رکھ لیں۔ یہ عمل زندگی میں ایک دفعہ فائدہ مند رہے گا۔ لاجواب صدری تحفہ اس نئے سال کا ہے، دنیا کی کسی کتاب یا جنتری میں ہرگز نہ ملے گا اور اجازت کے بغیر فائدہ نہ ہو گا۔ یہ عمل میری کتاب حصہ اول "تسخیر ارواح و حصول انعام" سے لیا گیا ہے۔ جو عنقریب انشاء اللہ ادارہ آئینہ قسمت شائع کرے گا۔ عبارت عمل یہ ہے:

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد یا جبرائیل اللہ الصمد یا میکائیل لم یلد ولم یولد یا اسرافیل ولم یکن لہٗ کفوا احد یا عزرائیل بحق یا خبیر یا علیم۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

جبرائیل قولہ — جبرائیل — الحق میکائیل

قل	هو	الله	احد	الله	الصمد	لم	يلد
هو	الله	احد	الله	الصمد	لم	يلد	ولم
الله	احد	الله	الصمد	لم	يلد	ولم	يولد
احد	الله	الصمد	لم	يلد	ولم	يولد	ولم
الله	الصمد	لم	يلد	ولم	يولد	ولم	يكن
الصمد	لم	يلد	ولم	يولد	ولم	يكن	لهٗ
لم	يلد	ولم	يولد	ولم	يكن	لهٗ	كفوا
يلد	ولم	يولد	ولم	يكن	لهٗ	كفوا	احد

میکائیل

و کفٰی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ


Scanned with CamScanner



رحمکاریہ جفر شرفِ مشتری

از تحریر: سید شعیب الرحمٰن شاہ، ایبٹ آباد

شرفِ مشتری میں امراضِ شوگر کے لیے ایک پُر تاثیر عمل لکھتا ہوں۔ وہ خواتین و حضرات جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہو۔ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہو تو ان کے لیے نقش عنبر و زعفران سے 90 عدد لکھیں۔ ایک پرچی کو تعویز بنا کر گلے میں ڈالیں۔ باقی روزانہ ایک ایک پرچی پیا کریں۔ یہ عمل اپنی کتاب رحمکاریہ جفر حصہ سوم سے لے کر حاضر ہوں۔ پھر دو رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 17، 18 پڑھیں۔ سلام پھیر کر اس کا ثواب خاندان زنجانی میں جتنے بزرگ وفات ہوئے ہیں سب کو بخش دیں۔ اگر یہ لوح خود تیار نہ کرسکیں تو مجھ سے یا براہِ راست حامل شاہ زنجانی سے تیار کروائیں۔ آخر میں مجھ گنہگار سید شعیب الرحمٰن شاہ اور حامل شاہ زنجانی صاحب کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اللہ پاک مزید برکات دیں۔





حامل نوٹ کا رزق کشادہ نہ ہو
تو اُسے حق ہو گا کہ قیامت کے
دن شاہ زنجانی کا دامن گیر ہو



نوٹ حاصل کرنے کے خواہاں بہن بھائی 2 ہزار 50 روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال کریں۔ ان کی جانب سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں 1900 روپے ہدیہ دے کر رسید کے ساتھ شرفِ مشتری کا نوٹ رجسٹرڈ لیٹر روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ مقامی طور پر اپنی پسند کی مسجد میں چندہ دینا چاہیں تو رسید کے ساتھ 100 روپے کے علاوہ 50 روپے ڈاک خرچ ارسال کر دیں۔

جو شخص فاضل مال اس لیے طلب کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی عزت محفوظ رکھ سکے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے کہیں برتر ہے۔ (ارشاد امام علی رضاؑ)



الہاماتِ جفر
شرفِ مشتری

شرفِ مشتری کے لیے خاص عمل ادارہ آئینہ قسمت کی نذر کرتا ہوں۔ یہ عمل تسخیر خلق کے لیے بہت پُر تاثیر ہے۔ سفر عراق میں ایک جفار عامل سے بطور تحفہ ملا تھا۔ عمل کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

نمبر1: عمل استغفار اعداد سادہ: 15908

نمبر2: طالب شعیب الرحمٰن: 712

مقصد تسخیر خلق: 2000

کل اعداد: 18620

تفریق: 10530

باقی: 8090


تقسیم: 4


باقی: 2

تو خانہ نمبر 9 میں 1 کا اضافہ ہر خانہ میں 351 کا اضافہ کریں۔ اس طرح خانہ نمبر 1 سے نمبر 16 تک 351 کا اضافہ کریں اور ساتھ میں اسم اعظم یَا رَافِعُ کا ورد کریں۔

میزان چاروں اطراف سے درست آئے گی۔ یہ علم الجفر کا معجزہ ہے۔ اسے ضرور آزمائیں، یہ عمل کہیں بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ اس کا نقش میرے پاس ہے۔ یہ لوح خالص چاندی پر 50 روپے کے نوٹ پر بنائیں۔ آخر میں محمد گنہگار سید شعیب الرحمٰن شاہ اور عامل شاہ زنجانی صاحب کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اگر یہ لوح خود تیار نہ کرسکیں تو مجھ سے یا براہ راست عامل شاہ زنجانی صاحب سے تیار کروائیں۔ اللہ پاک بہت برکات عطا فرمائے۔

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵







آیاتِ شفا

از انتخاب: شہزادہ حافظ سید محسن علی زنجانی

کینسر، شوگر، ہیپاٹائٹس، جادو ٹونہ، سحر، بندش

قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ انسان جب دنیاوی علاج سے لا علاج ہوتا ہے قرآن حکیم اس کیلئے آخری سہارا ہوتا ہے۔ کیونکہ صاحب بصیرت ہی اس سے کامل نسخہ تیار کرسکتا ہے۔ انسان آج تک اربوں روپیہ ان لا علاج امراض کے ممکنہ ادویات تیار کرنے کیلئے تجربوں کی نذر کر چکا ہے۔ لیکن لا حاصل۔ اس بات میں کوئی شک نہ ہے۔ قرآن کریم اور ادعیہ نبویؐ سے علاج سنت نبویؐ ہے اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت بھی ہے لیکن موجودہ دور میں اکثریت نے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے اور اس کی جگہ نام نہاد نیم حکیم' حکیموں اور ڈاکٹروں کے آگے اپنے زانو تلمیذ کر کے اپنا ایمان اور اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹا کر ان کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے۔ ماسوائے ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ رحمت الٰہی ساتھ ہے۔ وہی اس سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان خواہ کتنا ہی کامل' ماہر' ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا معالج کیوں نہ ہو وہ اللہ کی مرضی کے سامنے بے بس ہے۔ عاجز ہے' کمزور ہے اور بااختیار ذات صرف اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہے شفا بخشے اور جس کو چاہے آزمائش میں رکھے جس نے بیماری اتاری اس نے دوا بھی اتاری ہے۔ اللہ نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے اس لئے تم علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو (سنن ابوداؤد)

(1) اللہ کے بندو! علاج کرو کیونکہ اللہ نے ہر مرض کیلئے شفاء رکھی ہے۔ (مسند احمد بخاری)

(2) ہر بیماری کی دوا ہے۔ اگر بیماری کے مطابق دوا ہو تو اللہ شفا دے دیتا ہے (مسلم شریف) ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ!

ونُنزل من القرآن ماھو شفاء ورحمة للمومنین ○

(الاسراء ۸۲)

ترجمہ: اور ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں وہ شفاء جس سے تمام روگ دفع ہوں اور رحمت ایمان والوں کے واسطے۔

میرا اُن عاملین اور لا علاج مریضوں کو کھلا چیلنج ہے جو علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں یا اُن کے پاس علاج کروانے کیلئے اخراجات نہیں ہیں جو کینسر' ہیپاٹائٹس' شوگر' الرجی یا وہ بیماری جو ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہو۔ جادو' ٹونہ' آسیب' بندش ہر عملیات کا توڑ جیسے موذی مرض کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان عملیات کو اپنا کر ان سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ 41 یوم کے اندر اندر ان امراض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اکثر عاملین طرح طرح کے عمل تو دے دیتے ہیں لیکن اُن کے فیض سے افادیت تو حاصل کرنا دور کی بات ہے اُن کو کرنا ہی اُن کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے سینوں میں چھپے رازوں کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے۔ احقر نے ان لا علاج امراض کا علاج ڈھونڈنے کیلئے قرآن پاک کا سہارا لیا اور اسی نتیجہ میں درج ذیل آیات سامنے آئیں ان کو تجربہ کی کسوٹی پر پرکھا گیا سو فیصد رزلٹ پایا۔ آپ بھی ان اعمال کو کر کے میرے لئے اور حضرت شاہ زنجانی کیلئے دعا ضرور کریں جن کے وسیلہ سے ہی یہ نایاب تحفہ آپ تک پہنچا۔

آیات شفاء

- اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (فاتحہ ۱۱)
- وَیَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ (توبہ ۱۴۲)
- شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَھُدًی وَّ رَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (یونس ۵۷)
- وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا ھُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ (بنی اسرائیل ۸۲)
- یَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِھَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُہٗ فِیْہِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۝ (النحل ۶۹)
- وَاِذَا مَرِضْتُ فَھُوَ یَشْفِیْنِ ۝ (سورۃ الشعراء ۸۰)
- قُلْ ھُوَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ھُدًی وَّ شِفَآءٌ

(سورۃ حم ۴۴)

- اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ۝ (ھود ۵۷)

نقش نمبر 1 مع چال یہ ہے:

چال نقش

۶	۷	۲
۱	۵	۹
۸	۳	۴

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جبرائیل

۴۸۸۴	۴۸۸۶	۴۸۸۰
۴۸۷۹	۴۸۸۳	۴۸۸۸
۴۸۸۷	۴۸۸۱	۴۸۸۲

اسرافیل — عزرائیل — میکائیل

کھیعص — حمعسق

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَیَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَھُدًی وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ یَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِھَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُہٗ فِیْہِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا ھُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَاِذَا مَرِضْتُ فَھُوَ یَشْفِیْنِ قُلْ ھُوَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ھُدًی وَّشِفَآءٌ ۝ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ۝

نقش نمبر 2 یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَھُدًی وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ

جبرائیل

۲۵۰۲	۲۵۰۳	۲۴۹۸
۲۴۹۷	۲۵۰۱	۲۵۰۵
۲۵۰۴	۲۴۹۹	۲۵۰۰

اسرافیل — عزرائیل — میکائیل

کھیعص — وَاِذَا مَرِضْتُ فَھُوَ یَشْفِیْنِ

حمعسق — وَیَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا ھُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ



طریقہ استعمال: کینسر‘ ہیپاٹائٹس اور شوگر میں مبتلا مریض نقش نمبر 1 کو کسی سعد ساعت یا ساعت عطارد میں 5 عدد لکھیں اور نقش نمبر 2 کو 41 عدد لکھیں۔ لکھنے کیلئے قلم سرکنڈہ، اور مشک زعفران اور عرق گلاب استعمال کریں۔ اب نقش نمبر 1 میں سے ایک نقش کو گلے میں ڈال لیں اور دس دن تک نہار منہ اس کا ایک یا دو گھونٹ پانی استعمال کریں اسی طرح 40 دنوں میں چار نقش استعمال کریں۔ نقش نمبر 2 جو کہ 41 عدد لکھے گئے تھے اُن میں ایک نقش روزانہ ایک بوتل پانی میں ڈال لیں اور سارا دن یہی پانی استعمال کریں اور اس کے ساتھ تمام آیات شفاء کا کھلا ورد کریں۔ انشاء اللہ 41 یوم کے بعد ڈاکٹر سے ٹیسٹ رپورٹس حاصل کریں اور پھر 41 یوم یہی عمل کریں اس کے بعد رپورٹس کرواتا رہے انشاء اللہ تیسری مرتبہ یہی عمل کرنے سے موذی سے موذی مرض جڑ سے جاتا رہے گا۔

اولاد نرینہ: درج بالا طریقے سے نقش نمبر 1 چار عدد اور نقش نمبر 2 اکیس عدد تیار کریں۔ نقش نمبر 1 کو گلے میں ڈال لیں اور باقی 3 کو آب شفاء بنا کر سات سات دن استعمال کریں اور 21 نقش روزانہ ایک نقش استعمال کریں پھر تماشہ قدرت دیکھئے کہ یہ عمل تمام عملوں سے افضل عمل ہے۔

جادو‘ آسیب‘ شیاطین اور بندش ہر قسم: یہ امر مخفی نہ ہے کہ مخفی قوتوں کی ایک پراسرار دنیا ہمیشہ انسان کے ساتھ رہی ہے سونے پہ سہاگہ یہ کہ ہمارے اندر جو تعصبات حسد‘ بغض‘ لالچ‘ راتوں رات امیر ہونے کی نفسیاتی اور شیطانی خواہشات نے ہمیں ایسے لوگوں کا گرویدہ بنا رکھا ہے اور اس طرح بالواسطہ اور بلاواسطہ ہم سحر جادو ٹونے کالے علم کو پروان چڑھا رہے ہیں اور پھر اپنے جمے جمائے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور رونا دوسروں کا رکھتے ہیں بلکہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے شفا جلد حاصل نہیں ہوتی تو اس کو یہ بات جان لینی چاہئے کہ اس کی اپنی ذات میں عیب اور نقص موجود ہوتا ہے اور وہ عیب اور نقص کیا ہے؟ جو رکاوٹ علاج ہے یہ ڈھونڈنا اس کا اپنا کام ہے کہ وہ غور و فکر سے کام لے اور اصل وجہ کو تلاش کرکے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ نماز پنجگانہ کو اپنائے اور صدقہ دے نہ کہ (معاذ اللہ) اللہ کے کلام کو تنقید کا نشانہ بنا کر اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کرے۔ ایسے حضرات نمبر 1 چار عدد لکھیں اور نقش نمبر 2 اکیس عدد لکھیں اور ان کی پشت پر نقش نمبر 3 لکھیں۔ نقش نمبر 1 میں سے ایک کو اپنے گلے میں پہن لیں اور باقی 3 سے آب شفاء تیار کر کے سات یوم استعمال کریں۔ باقی نقش نمبر 2 اکیس یوم روزانہ ایک نقش استعمال کریں انشاء اللہ شفاء کاملہ نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اس فقیر اور حضرت شاہ زنجانی کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔

یہ نقش‘ نقش نمبر 1,2 کی پشت پر لکھیں۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

جبرائیل

۵۹۳۷	۵۹۳۸	۵۹۳۳
۵۹۳۲	۵۹۳۶	۵۹۴۰
۵۹۳۹	۵۹۳۴	۵۹۳۵

یا شافیُ یا کافیُ یا سلامُ





دعوۃ سورۃ الھمزۃ

ازتحریر: غلام قادر بلوچ، کراچی

دعوۃ سورۃ الھمزۃ ایک عظیم الشان عمل ہے۔اس کے خواص کو تحریر میں لانا محال امر ہے۔جس کے لیے ہزاروں صفحات درکار ہوں گے۔اس بزم میں صرف دعوۃ کا مفصل بیان اور مختصر خواص پیش خدمت ہے۔اس پر صرف وہ اشخاص عمل پیرا ہو جو دعوۃ جیسے عظیم علم کو سمجھتا ہوں۔

ترکیب:

عروج ماہ اس عمل کا آغاز کیا جائے۔قبل از عمل تین یوم روزہ رکھے عمل شب پنجشنبہ سے شروع کریں پہلی رات (۱۰۰۰) بار استغفار۔دوسری رات (۱۰۰۰) بار درود شریف۔تیسری رات (۱۰۰۰) بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔اب سالک مکمل خلوت اختیار کرے۔اور پرہیز جلالی وجمالی کے ساتھ اس دعوۃ کو شروع کیا جائے۔دوران عمل عمدہ بخور سلگائیں۔روزانہ غسل کریں۔اور پاک وصاف لباس زیب تن کرے۔اور ہر نماز کے بعد اس دعوۃ کو (۱۲۶) بار تلاوت کریں۔چالیس یوم تک۔دعوات مبارک یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ویل لکل نوھاھیل ھمزۃ ھملمائیل لمزۃ لملمائیل الذی جمیع الھیائیل مالاملیائیل وعددہ عزرائیل یحسب ھلیائیل ان مالہ طھطائیل اخلدہ خھجھائیل کلالینبذون الکھائیل فی الحطمہ ھجھائیل وماادراک قمقھیائیل ماالحطمۃ حطمیائیل نارالله نمحلائیل الموقدۃ البائیل توکلوایاخدام ھذہ السورۃ الشریفہ والاسماء العظیمۃ وافعلوا کذاوکذا بحق نارالله الموقدۃ التی تطلع علی الافئدۃ انہاعلیھم موصدۃ فی عمد ممددۃ☆

دوران عمل عجائبات کا ظہور ہوگا۔اس سورۃ مبارک کے خادم عالم خواب وبیداری میں ظاہر ہوں گے۔چلہ کے اختتام پر اس سورۃ مبارک کے خدام مجسم سامنے آئیں گے۔اور صاحب دعوت سے حاجت دریافت کریں گے۔اور چند شرائط پر عہد کریں گے۔اور اپنی نشانی صاحب دعوت کو دے کر چلے جائیں گے۔بعد چلہ روزانہ (۱۲۶) بار مداومت کے طور پر کرتے رہے۔اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو کر ان کی خدمت حاصل کریں۔

(۱) **حاضرات**۔ کے لیے معمول کو سامنے بٹھا کر آنکھیں بند کروا کر گیارہ۔گیارہ بار عمل بڑا پڑھیں زیادہ سے زیادہ (۳۳) بار پڑھنے سے حاضری ہوجائے گی۔اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ہر عمر کے معمول پر حاضرات کر کے حل امور میں ان کی خدمت حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(۲) **آسیب زدہ**۔آسیب زدہ مریض کو سامنے بٹھا کر بخور لوبان وحرمل سلگا کر اس دعوت کو تلاوت کرنا شروع کریں۔اور مریض پر دم کرے چند بار تلاوت کرنے سے آسیب مریض کے سر پر حاضر ہو کر عاجز آجائے گا۔اور معافی طلب کرے گا۔عامل اس سے عہد وقسم لے کر ہمیشہ کے لیے دفع کردے۔سخت سے سخت آسیب بھی اس دعوت کے عامل کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔بعد یہی دعوت عرق گلاب وزعفران سے لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دے۔

(۳) **سحرزدہ**۔عرق گلاب پر ۱۲۶ بار پڑھ کر دم کرے اور یہی پانی صبح وشام پلاتا رہے۔سات یوم میں ہر قسم کا سحر جادو کا اثر زائل ہوگا اور مریض کو کلی شفاء ہوگی۔

Scanned with CamScanner

زائچہ فروری 2013ء

دسواں گھر برج اسد ہے جس کا مالک چوتھے گھر میں رہتے ہوئے دسویں گھر سے مقابلے کی نظر رکھتا ہے، زحل سے تربیع، مشتری سے تثلیث، زہرہ سے قران اور قمر سے تثلیث کی نظر ہے، صدر، وزیر اعظم اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اگرچہ ان کے لیے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا لیکن آئینی و قانونی تحفظ حاصل رہے گا۔

زائچے کے گیارھویں گھر پر برج سنبلہ قابض ہے اور اس کا حاکم عطارد بھی چوتھے گھر میں مریخ کے ساتھ قران کر رہا ہے، قمر برج میزان میں ہے لیکن گیارھویں گھر کے آخری درجات پر ہے، پارلیمنٹ اپنی حیثیت کھو چکی ہے، نئے انتخابات کے لیے جوڑ توڑ اور انتظامات جاری ہیں، سب کی نظریں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہیں، ممبران اسمبلی کے لیے نئے قواعد و ضوابط پر زور دیا جائے گا، گزشتہ سال کی کارکردگی کا چرچا ہوگا، بڑی بڑی مالی بدعنوانیوں کی خبریں اخبارات کی زینت بنیں گی اور بہت سے ممبران اسمبلی عدلیہ کی گرفت سے نکلنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہوں گے۔

زائچے کا بارھواں گھر خالی ہے، اس کا حاکم تیسرے گھر میں کوئی اہم نظر نہیں رکھتا، اس کا سیدھا سادا مطلب یہ ہے کہ ترتیب کا فقدان ہوگا، کیا پہلے ہونا چاہیے اور کیا بعد میں، اس کا شعور بہت مشکل ہے، کوئی نیا بحران جنم لے گا، درست فیصلوں اور اقدام کی طرف بڑھنے میں دشواری پیش آئے گی، عام لوگوں کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ وہ کسے صحیح سمجھیں اور کسے غلط، جب لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہوں تو اچھے اور برے کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، میڈیا میں گمراہ کن پروپیگنڈا سامنے آئے گا لہٰذا بہت محتاط ہو کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی۔

مختصر ان من از زائچہ، فروری کسی صورت بھی سعد اور موافق اثرات ظاہر نہیں کر رہا، طالع نحس ہے اور نحس سیارگان کے زیر اثر ہے، زائچے کے چوتھے گھر کی پوزیشن کثرت سیارگان کے سبب خاصی پیچیدہ ہے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، آٹھویں، دسویں، گیارھویں گھروں کے مالکان کا اجتماع چوتھے گھر میں ہے، لہٰذا فروری میں ملکی حالات میں کسی مثبت پیش رفت کا امکان نظر نہیں آتا، ملک و قوم کے مفاد کے بجائے ذاتی مفادات اہل سیاست اور ارباب حل و عقد کے پیش نظر رہیں گے۔

مراقبہ، ارتکازِ توجہ، یکسوئی، روحانیات بڑھانے کیلئے تیار شدہ ادارہ سے ہدیۃً دستیاب ہیں

ہدیہ علاوہ محصول ڈاک

3 انچ 1200 روپے

6 انچ 2500 روپے

جلد انعام کی حصولیابی کیلئے قومی پرائز بانڈ خرید کر اِس میں رکھیں

042 - 35752277 , 35872277

منگوانے کا پتہ: شعبہ روحانیات ادارہ آئینہ قسمت کاشانہ زنجانی D-125 گلبرگ 2۔ لاہور



کرشمات
صدری عملیات
از تحریر: ڈاکٹر نیر عباس علوی، لاہور

بندش کاروبار کا مجرب توڑ

۷۸۶

۱۲۸/۱۱۸/۱۳۵/۱۱۰/۹۲/۶۶

اجب یا جبرائیل بحق یا اللہ

اللھم افتح	ابواب رحمتك	بحق	یا فتاح
۱۱۱	۴۹۹	۵۹۶	۶۷۹
۴۹۸	۱۰۸	۶۸۲	۵۹۷
۶۸۱	۵۹۸	۴۹۷	۱۰۹

میکائیل — اسرافیل — عزرائیل — کہیعص — حمعسق

اجب یا عزرائیل بحق یا رحمن

الٰہی بحق کلام مقدس فلاں بن فلاں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما اور غیب سے رزق کے اسباب پیدا فرما۔ بحق یا فتاح

۸	۲	۱۰
۹	۷	۴
۳	۱۱	۶



ترکیب عمل

نیاز عمل: نقش کو تحریر کرنے اور عمل سر انجام دینے سے قبل تو چندی جمعرات کو سوا کلو دودھ کی کھیر پکا کر معروف طریقے کے مطابق پنجتن پاکؑ کے اسماء مبارکہ کی نیاز دلا کر خود بھی کھائے اور معصوم بچوں میں بانٹ دیں۔

بخور عمل: اچھی سی اگربتی لے کر اول و آخر 11 بار درود پڑھ کر اس آیت کو تی بتی پر 11 بار پڑھ کر جلانی ہے۔ جس دوران نقوش لکھے جائیں گے۔

وَاِذَا بطشتم بطشتم جَبَّارِیْنَ

بعد ازاں 40 یوم تک ایک اگربتی روزانہ مقام عمل پر جلائی جائے گی۔

روحانی سیاہی: عرقِ گلاب میں زعفران ملا کر سیاہی بنائیں اور اس پر 11 بار درود شریف پڑھ کر نٓ وَالقلم وما یسطرون 101 بار پڑھیں۔

روحانی قلم: تازہ انار کی شاخ کی قلم بنا کر اس پر یا علیم-150 بار دم کریں۔

کاغذ: سفید پاکیزہ کاغذ یا کپڑے پر اس نقش کو قبلہ رخ بیٹھ کر تحریر کریں۔

پڑھائی عمل: 2 نقش تحریر کر کے سامنے رکھیں اور باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر 1885 بار۔ اَللّٰھُمَّ افتح بواب رَحْمَتِكَ بحق یَا فَتَّاحُ۔ پڑھ کر دونوں نقوش پر دم کریں۔ ایک چاندی میں مڑوا کر بازو/ گلے میں پہن لیں۔ جبکہ دوسرا نقش فریم کروا کر گھر کے اندر اونچی جگہ پر لگا دیں۔ روزانہ اس کے نیچے پڑھی ہوئی اگربتی سلگائیں۔ مذکورہ عمل اپنے نام کے مطابق یا پھر (500 بار) پڑھنا شروع کریں۔ انشاء اللہ چالیس یوم کے اندر غیب سے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر خود نہ بنا سکو تو قبلہ شاہ زنجانی یا پھر مجھ حقیر سے رابطہ کریں۔



کراماتِ جفر لکھ پتی و ذاتی مکان کے خاص اعمال

از تحریر: محمد اسد اللہ سلیمانی چشتی نظامی، جھنگ

قارئین آئینہ قسمت ! اس مرتبہ خاص عملیات لے کر حاضر ہوں۔ ایک بات اور بیان کرتا ہوں کہ مجھے آئینہ قسمت میں لکھتے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں۔ میں نے سن 2003ء سے لکھنا شروع کیا اور اب سن 2013ء چل رہا ہے اور اندرون و بیرون ممالک کے لوگوں نے خوب میرے عملیات صدری پسند کیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل سے ہوا اور اس میں وسیلہ جناب سید انکار حسین شاہ زنجانی صاحب بنے۔ کیونکہ ان کے رسالہ آئینہ قسمت کے ذریعے ہم عاملین اپنے عملیات وغیرہ شائع کرواتے ہیں اور عوام الناس تک پہنچتے ہیں اور میں شاہ زنجانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنہوں نے مجھے مسلسل لکھنے کا موقع دیا اور ہر سال زنجانی جنتری اور ہر ماہ آئینہ قسمت اعزازی طور پر ارسال کرتے ہیں اور یہ ان کی علم دوستی کا ثبوت ہے اور میں بھی روحانی سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے تعلق رکھتا ہو اور میرے خاندان میں سب اہل نسبت لوگ ہیں اور میرے والد محترم با عمل عاملین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے نسبت والے لوگوں میں جناب سید انکار حسین شاہ زنجانی صاحب بھی شامل ہیں اور سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آل اولاد کو ہمیشہ حاسد کی نگاہ سے بچانے اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین یارب العالمین

لکھ پتی بننے کا خاص عمل

آج کا انسان فکر میں زیادہ لگا ہوا ہے اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں۔ تاکہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکوں۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک خاص صدری و اسراری عمل لکھ پتی بننے کا پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص یہ کہتا ہوں کہ پیسہ آتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آمدنی بھی بہت ہو تو لیکن پیسہ جمع نہ ہوتا ہو۔ اگر کاروبار ہو لیکن ٹھیک طریقے سے چلتا نہ ہو تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ خاص عمل کر کے اپنے دل کی مراد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے خاندان کا بھی ہو تو اس کی عزت نہیں ہوتی ہے اور غریب آدمی ہمیشہ پستی میں گرتا جاتا ہے۔ اگر ایسے آدمی کے پاس بھی دولت آ جائے تو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ ورنہ انسان کو اپنے بھی پوچھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ مالی فوائد حاصل کرے گا اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر پائے گا۔

عمل کا طریقہ یوں ہے کہ نوچندی جمعرات کو نماز فجر کے بعد عمل شروع کرتا ہے اور اگربتیاں گیارہ عدد روشن کر دیں تاکہ ہر طرف خوشبو پھیل جائے اور رجال الغیب پشت پر رکھنی ہے اور روزانہ مقررہ وقت پر کرتا ہے اور عبارتِ عمل روزانہ 100 بار اول و آخر 110-110 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر پورے قواعد عملیات کے ساتھ نقش مبارکہ تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور وظیفہ 41 روز تک ورد کرتا ہے۔ اس کے بعد نیاز بچوں میں بانٹ دیں اور عبارتِ عمل روزانہ 313 مرتبہ ورد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اکتالیس روز کے بعد مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک سال کے اندر انشاءاللہ لکھ پتی بن جائیں گے۔ لاجواب و صدری تحفہ ہے اور اجازت عمل مجھ سے ضرور حاصل کریں۔ عبارتِ عمل یہ ہے:

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۝ یا باسط یا رزاق یا وھاب یا واسع یا کریم یا غنی یا مغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔

لوح مبارکہ یہ ہے:



جبرائیل قولہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الحق میکائیل

اللہ اکبر ۲۰۲۸	اللہ اکبر ۲۰۴۱	اللہ اکبر ۲۰۳۵	اللہ اکبر ۲۰۳۵
اللہ اکبر ۲۰۳۹	اللہ اکبر ۲۰۳۴	اللہ اکبر ۲۰۲۹	اللہ اکبر ۲۰۴۰
اللہ اکبر ۲۰۳۳	اللہ اکبر ۲۰۳۶	اللہ اکبر ۲۰۴۳	اللہ اکبر ۲۰۳۰
اللہ اکبر ۲۰۴۲	اللہ اکبر ۲۰۳۱	اللہ اکبر ۲۰۳۲	اللہ اکبر ۲۰۳۷

اسرافیل کہم ۱۳۶۶۳۱ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ ۳م عزرائیل

ذاتی مکان کا خاص عمل

قارئین آئینہ قسمت! آج کی محفل میں ایک خاص عمل ذاتی مکان ہونے کا پیش کر رہا ہوں۔ کیونکہ آج کے دور میں اپنا ذاتی مکان ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر کم آمدنی والا ہے تو اسے یہ فکر تو ہوگی کہ یکم تاریخ آگئی ہے اور مالک مکان کو کرایہ دینا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت پر کرایہ نہ دیا جائے تو مالک مکان خالی کرانے کی دھمکی دیتا ہے۔ بعض عاملین حضرات کو بھی میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور عملیات کی اشاعت صفحے سیاہ کرنے کی غرض سے کرتے ہیں اور صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ چاہے ان کو اپنی برادری میں بھی کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے اور پھر ان کا اپنا مکان تک نہیں ہوتا۔ اب ان لوگوں کے دعوے کہاں تک درست ہوں گے۔ قارئین آپ خود بھی فیصلہ کرلیں کہ ان عاملین کی سچائی کہاں تک درست ہے۔ کیا یہ عملیات کے ذریعے اپنے مکان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ فراڈی عاملین کرایہ کا مکان یا دکان لیتے ہیں لیکن جب لوگوں کو خوب لوٹ لیتے ہیں، پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور یہ لوگوں سے بھاری بھاری فیسیں بھی لیتے ہیں۔ لیکن ان کی روزی میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنا مکان نہیں بنا سکتے ہیں۔ قارئین ایک بات یہاں نوٹ کرلیں کہ جو عامل دعویٰ کرلے کہ فلاں کام اتنے وقت یا دنوں میں کارنٹی سے کرسکتا ہوں، وہ سمجھ لیں فراڈیہ عامل ہے کیونکہ دعویٰ فرعون نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔

انہیں فراڈی عاملین کی وجہ سے ہم جیسے باعمل عاملین بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔

قارئین آئینہ قسمت! عمل کا طریقہ یہ ہے کہ علیحدہ پاک وصاف کمرہ میں داخل ہو جائیں اور خوشبودار بخور سلگائیں تاکہ کمرہ خوشبو سے مہک جائے۔ نوچندی پیر کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ پھر دو رکعت نفل حاجت کے پڑھیں اور درج ذیل عبارت عمل اول و آخر 110-110 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 525 مرتبہ ورد کریں اور بعد نماز عشاء کے پڑھنا ہے۔

عبارت عمل پڑھنے کے بعد یہ لوح مبارکہ پورے لوازمات کے ساتھ تیار کر کے اپنے پاس رکھیں اور میٹھی نیاز بچوں میں بانٹ دیں اور وظیفہ روزانہ 21 روز تک کرنا ہے۔ آخری روز پھر نیاز بانٹ دیں۔ وظیفہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ انشاء اللہ ایک سال میں ذاتی مکان ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی لاجواب و قابل قدر تحفہ ہے۔

عبارت عمل یہ ہے:

لا الہ لا دے الا اللہ ذاتی مکان کے اسباب پیدا فرما دے محمد رسول اللہ کرم فرما دے۔

جبرائیل قولہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الحق میکائیل

محمد رسول اللہ روپائیل	لا الہ طاطائیل	الا اللہ اسرافیل
لا الہ طاطائیل	الا اللہ اسرافیل	محمد رسول اللہ روپائیل
الا اللہ اسرافیل	محمد رسول اللہ روپائیل	لا الہ طاطائیل

اسرافیل کہم ۱۳۶۶۳۱ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ ۳م عزرائیل



از تحریر: منیر احمد میرانی قمبر

ثاقب اسرارِ جفر
ظالم کے ظلم کا خاتمہ

قارئین کرام آئینہ قسمت! خدا کے فضل سے آج تک جو بھی عمل لکھا ہے بے کار نہیں گیا۔ آپ کی خدمت میں ایک نایاب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو مظلوم کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ یہ عمل دشمن ظالم جو خلق خدا پر ظلم کرتا ہو اور ظالم درندہ ہو، شرارتی، چغل خور ہو، عوت، مال، روزگار اور اسلام کا دشمن ہو۔ اس کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس دعا سے کام لو، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، دشمن کو سزا بھی مل جائے گی۔ اپنا حق بھی ملے گا۔ مگر جائز اور مجبوری کی حالت میں کریں، اس کا ذمہ دار عامل خود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بڑا طاقتور بنایا ہے اور اس آزاد کر دیا ہے۔ دو راستہ دے کر ایک رحمانی دوسرا شیطانی اس کی مرضی جس پر چلے۔ سزا اور جزا کا دن مقرر ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے تو اس دعا سے اپنا کام لے۔ دعا یہ ہے:

یابدیع العجائب یا العقو یا بدیع

اس عبارت کے اعداد قمری نکال کر تین اعداد الواح تیار کریں۔ مربع کی چال معکوس سے سیسے کی جو دھات ہوتی ہے۔ اس کی لوح بنواؤ اور اس پر یہ نقش لکھو اور سرخ مس اور ہینگ کی دھونی دے کر ایک کو پرانی قبر میں دفن کرو۔ دوسرے کو دشمن کی گزرگاہ پر دفن کرو، تیسرے کو پرانے ویران گھر میں دفن کرو لکھ کر تیار کر کے اس پر 627 مرتبہ عبارت پڑھو بعد میں استعمال کرو اور روزانہ دشمن اور ان کی ماں کے اعداد قمری نکال کر اتنے تعداد 15 دن تک ورد کرو، دشمن کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اگر دشمن کو معاف کرو تو بہتر ہوگا۔ اس عمل کو قمر در عقرب یا مقابلہ زحل و مریخ میں کرو۔

ترتیب لوح مبارک

۱۵	۴	۵	۱۰
۶	۹	۱۶	۱۳
۱۲	۷	۲	۳
۱	۱۴	۱۱	۸

دردائیل جبرائیل دردائیل

۳۳۹	۸۹	۸۳	۱۱۶
۸۴	۱۱۵	۳۴۰	۳۳۷
۱۱۸	۸۵	۸۷	۸۸
یابدیع	یاالعقو	العجائب	یابدیع

عزرائیل — اسرافیل

دردائیل دردائیل



نعمتِ خداوندی
بیٹا
اولادِ نرینہ کے خواہشمند اپنی نیک تمنا کی تکمیل کے لیے
عامل شاہ زنجانی سے روحانی فیض حاصل کریں۔



ضروریاتِ عمل

زعفران، روح گلاب، مشک، روغن زرد (گاؤ)، العود اگر بتی، شکر سرخ، مٹی کا چراغ جس کو پہلے استعمال نہ کیا ہو۔ جسم، جگہ، لباس پاک ہو۔ مکمل تنہائی ہو، کوئلے، انگیٹھی، بخور صندل سرخ، لوبان

اوقات

عروج ماہ قمری، دن جمعہ یا قمر عطارد تسدیس یا تثلیث یا قمر باز ہرہ تثلیث ہو یا عطارد یا زہرہ تثلیث ہو یا قمر باز ہرہ قران ہو۔

عمل

بعد نماز عشاء یا مطلوبہ ساعت میں عمل کا آغاز کریں۔ 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے انگیٹھی میں کوئلے جلا کر بخور سلگا کر کمرہ معطر کریں۔ کمرے میں العود کی اگر بتی بھی جلائیں۔

مثالی عمل

طالب معہ والدہ کے نام کو علیحدہ علیحدہ حروف میں لکھیں۔

طالب: عامر علی بن ثریا (ع ا م ر ع ل ی ث ر ی ا)

مطلوب معہ والدہ کے نام کو علیحدہ علیحدہ حروف میں لکھیں۔

مطلوب: ناھید بنت فریدہ (ن ا ھ ی د ف ر ی د ہ)

طلسم: اعھطحفش (ا ع ھ ط ح ف ش)

امتزاج: طلسم۔ طالب۔ مطلوب

ایک حرف طلسم کا ایک حرف طالب کا ایک حرف مطلوب کا لے کر سطر امتزاج لکھیں۔ سطر امتزاج لکھتے وقت عزیمت کو سات بار پڑھ کر فتیلہ دم کریں۔ فتیلے کو روغن گاؤ میں ڈبو کر اور اس کے اندر شکر سرخ رکھ کر لپیٹ لیں۔ فتیلے کو چراغ میں رکھ کر آغاز سطر کی طرف سے فتیلے کو آگ لگا دیں۔ منہ سے کہیں "پروردگار جو آگ فتیلے کو لگی ہے، وہ آگ میرے مطلوب کے دل میں میری محبت کی لگی ہے۔ جب تک وہ حاضر نہیں ہوگا، آگ سرد نہ ہوگی۔" بتی جلنا شروع ہو جائے تو مندرجہ ذیل عزیمت پاس بیٹھ کر پڑھیں۔ بتی جلنے تک ورد جاری رکھیں۔

سطر امتزاج

اعنع اامہ ط ری ح ع د ف ل ف ش ی ر ث ی ر دی ہ ا

عزیمت

عَزَّمْتُ عَلَیْکُمْ اَجِبْ یا عجبائِیلُ بِحَقّ نو دودُ اَلْعَطُوفَ الرَّحِیم اَنْ یَّلقِی وَالْمُحَبَّةَ وَالْمُوَدَّةَ وَالرِّافَةَ بَینِی وَ بَینَ ناھید بنت فریدہ کَمَا مَز حَیُت حَرَوف اسمی بحُروف اِسمَعها اَمْرُ جُوا مُجتِی بِروجه بحق اَلْمَلِكَ الْقُدُوس۔

دورانِ عمل رجال الغیب کا خیال رکھیں۔ عمل 3 رات سے 7 رات تک بلاناغہ جاری رکھیں۔ مطلوب کے حاضر ہونے پر عمل بند کر دیں۔ جگہ اور وقت عمل ایک ہی رکھیں۔ عمل ناجائز یا غیر شرعی حاجت کے لیے نہ کریں۔ یہ عمل بے خطا ہے اور جب بھی کرے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔

Scanned with CamScanner



از تحریر: قیصر احمد بی اے، کراچی

زیتون

غذائی و دوائی خصوصیات، صحت مند زندگی کی ضمانت

انسان پر خدائے لایزال کی بے شمار نعمتیں اور ان گنت احسانات ہیں۔ ہر موسم میں پھل کا وجود بہت بڑی نعمت و رحمت ہے۔ پھل انسانی جسم کی بے شمار ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے پھل پائے جاتے ہیں۔ جس میں ایک اہم پھل زیتون بھی ہے۔ زیتون ایک آسمانی سوغات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے کھانے اور پینے والے، معدہ کے علاوہ دیگر بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں یا پھر امراض کی تکلیف سے مکمل طور پر نجات پالیتے ہیں۔

زیتون کا درخت قدیم ترین درخت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوحؑ جب آیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پانی اترنا شروع ہوا تو زمین پر سب سے پہلی چیز جو نمایاں ہوئی وہ زیتون کا درخت تھا۔

قرآن مجید کی سورۃ المومنون میں زیتون کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ "طور پہاڑ کے علاقے میں وہ درخت ہے جس سے وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے"۔ (آیت ۲۰)

سورۃ التین کا آغاز ہی انجیر اور زیتون سے ہوتا ہے۔ "قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینا کی۔۔۔۔"۔

توریت میں بھی زیتون کے تیل کا ذکر ہے۔ مقدس کتابوں میں زیتون کا بابرکت ہونا پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی تو اس میں بھی زیتون کے تیل کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ النور آیت ۳۵ میں ارشاد باری ہے۔

"خدا آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے۔ (یعنی) زیتون کا جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ اس کا تیل خواہ آگ سے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، روشنی پر روشنی (ہو رہی ہے)۔ خدا اپنے نور سے جسے چاہتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے"۔

حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ "زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ پاک صاف اور مبارک ہے"۔

طب نبوی ﷺ کے مطابق (زیتون کا تیل بواسیر کے لیے مفید بتایا گیا ہے۔ خالد بن سور روایت کرتے ہیں کہ میں غالب ابن ابجر کے ہمراہ مدینہ آیا۔ راستے میں غالب بیمار ہوگئے۔ ان کی عیادت کو ابن ابی عتیق آئے اور بتایا کہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کلونجی میں شفا بتائی ہے۔ ہم نے کلونجی کے چند دانے کوٹ کر زیتون کے تیل میں ملائے اور ناک کے دونوں اطراف میں ٹپکائے تو غالب شفایاب ہوگئے۔ (ابن ماجہ بخاری)

ایک بار حضرت عمر فاروقؓ کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ نے رات کے کھانے پر اونٹ کا سر اور زیتون کا تیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ تمہیں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ نبی پاک ﷺ نے اس کو مبارک درخت قرار دیا ہے۔

بواسیر، ہاسور، جلدی امراض، پلدوسی اور کوڑھ میں زیتون کا تیل فائدہ بخش ہے۔

پرانے حکیم زیتون کی افادیت جانتے تھے۔ وہ بلا جھجک جلدی امراض میں اسے استعمال کراتے، پھنسی پھوڑے ٹھیک ہونے میں نہ آتے، سوزش بڑھ جاتی، بعض دفعہ پھوڑے میں سے بدبو آنے لگتی۔ ایسی حالت میں زیتون کا تیل لگایا جاتا اور زخم ٹھیک ہو جاتے۔ زیتون کے پتے پیس کر ان پر عرق نکالا جاتا ہے۔ الرجی جیسے ہونے والے جلدی امراض میں یہ عرق لگایا جاتا ہے۔

عام خارش میں روغن زیتون لگایا جاتا ہے۔ چہرے کی جلد کے لیے روغن زیتون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ روغن چہرے کو نکھارتا ہے، جلد کو ملائم کرتا ہے، اسے مختلف چیزوں میں ملا کر ماسک کی طرح لگایا جائے تو چہرے کی رونق کو دوبالا کرتا ہے۔

آدھے چمچ شہد میں آدھا چمچ زیتون کا تیل اور چھ سات قطرے لیموں کا رس ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیے اور دس پندرہ منٹ بعد روئی سے ماسک صاف کر کے منہ دھولیجیے۔ جن لوگوں کو لیموں کا رس موافق نہ ہو وہ بغیر لیموں کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مسوڑھوں کے لیے بھی یہ تیل مفید ہے۔

تھوڑے سے زیتون کے تیل میں پسا ہوا نمک ملا کر مسوڑھوں اور دانتوں پر ملنے سے مسوڑھے مضبوط اور دانت صاف رہتے ہیں۔

آگ میں جلنے سے کوئی زخم رہ جائے تو زیتون کے تیل سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فالج جیسے مرض میں بھی اس کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ جوڑوں کے درد میں بھی مالش کرنی چاہیے۔ اس سے جوڑوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہوں، ان کو بھی طاقت ملتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی تک اس کی مالش سے جڑ جاتی ہے۔ زیتون کے کچے پھل کو پانی میں ابال کر غرارے کیے جائیں تو منہ کے اکثر امراض صحیح ہو جاتے ہیں۔ مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور منہ کے اندرونی زخم، چھالے، دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیتون کے پتے پیس کر گندے اور بدبودار زخموں پر لیپ کرنے سے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھوں اور بغلوں میں بہت پسینہ آئے، وہ زیتون کے تازے پتے گھوٹ کر لگائیں تو آرام آجائے گا۔

پٹھوں کا درد انسان کو بے تاب کر دیتا ہے۔ زیتون کے تیل کی روزانہ مالش سے جسم کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے۔ عرق النساء جیسے درد میں بھی یہ تیل کام آتا ہے۔

میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بچپن سے زیتون کا تیل سر میں لگاتے آئے ہیں۔ ان کے سر میں کبھی کوئی بیماری ہوئی نہ بال گرے اور نہ گنج ہوا۔ سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ بال سفید نہیں ہوئے۔ زیتون کا تیل بالوں کو چمکاتا اور سیاہی برقرار رکھتا ہے۔ اس کے کھانے سے سر میں سکری، خشکی، زخم وغیرہ نہیں ہوتے۔ یہ بذات خود بالوں کے لیے بہترین ٹانک ہے۔

پرانے طبیب پتے کی سوزش اور پتھری کے مریضوں کو روغن پلاتے۔ صفراوی نالیوں سے سُدے تک نکل جاتے۔ وہ تیل کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھائے جاتے اور مزے کی بات یہ کہ پتھریاں بھی نکل جاتیں۔ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ پیشاب آور ہے اور پیچش کو ختم کر دیتا ہے۔

جاپان میں زیتون کے تیل کو آنتوں کے سرطان میں مفید قرار دیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے باشندوں کا خیال ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے زیتون کا تیل پیتے ہیں، وہ کبھی پیٹ کے سرطان میں مبتلا نہیں ہوتے۔ معدے اور آنتوں میں زخم ہوں تو زیتون کا تیل خالی پیٹ دینے سے مندمل ہو جاتے ہیں۔ دن میں گیارہ بجے اور رات کو مریض کی حالت کے پیش نظر دس سے بیس گرام تک تیل روزانہ دینا چاہیے۔

اپنے فیملی ڈاکٹر یا معالج سے مشورہ کر کے تیل پیجیے اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس میں ستر بیماریوں سے شفا ہے اور شافی صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔

جو لوگ باقاعدگی سے تیل پیتے ہیں ان کو سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ سانس کی ہر بیماری میں زیتون کا تیل فائدہ دیتا ہے بلکہ یہ دورے کے دورانیہ کو ختم کرتا ہے۔ دمہ کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دورے کے درمیان اُبلتے پانی میں شہد پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

زیتون فلو اور زکام میں بطور اینٹی بائیوٹک ادویہ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ پابندی سے زیتون کا تیل پیتے ہیں ان کو فلو اور زکام نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی جائے تو معمولی سا خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تپ دق کے مریضوں کے لیے بھی یہ تیل بے حد مفید ہے۔

روغن زیتون صفرائے جامد یعنی کولیسٹرول سے مبراء اور حیاتین ای کا ماخذ ہے۔ اشیاء کو سڑنے گلنے سے بچاتا ہے۔ اس کی بدولت مچھلی، پنیر، مشروبات اور دوسری چیزیں برسوں خراب نہیں ہوتیں۔ گزشتہ چار ہزار برسوں میں افریقہ، یورپ اور ایشیاء کے درمیان واقع علاقوں کی تہذیبوں میں زیتون کا تیل ایک ہمہ گیر جنس

کے طور پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ موجودہ صدی تک آتے آتے دنیا کے دیگر ممالک میں زیتون کے تیل کے بہت سے جوہر عیاں ہو چکے ہیں۔ منفعت کے لحاظ سے روغن زیتون پر ایک تحقیقاتی مقالے میں یہ انکشاف ہوا کہ ابیض المتوسط اقوام میں قلبی امراض کا تناسب مغربی اقوام کے مقابلے میں حد درجہ کم ہے اور اس کا خاص سبب ان کے ہاں زیتون کا تیل عام استعمال ہوتا ہے۔

80ء کی دہائی میں آخری برسوں کے درمیان مغربی ممالک میں زیتون کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہوا۔ صارف غذائیت کے طلب گار تھے، قدرتی مصنوعات کے چاؤ میں سرگرم اور اعلیٰ ترمصنوعات کے لیے بہتر دام دینے کے لیے دلی طور پر رضامند تھے۔ شیلیک کھمبوں سے سامن قہوہ تک لوگوں پر جیسے جیسے بیرونی کھانوں کے انکشافات ہو رہے تھے، روغن زیتون منفعت کو بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ 83-1982 کے درمیان امریکا نے دس ملین یعنی ایک کروڑ گیلن زیتون کا تیل درآمد کیا۔ 98-1997 میں تیل کی درآمدی شرح پانچ گنا تجاوز کر گئی۔

عرب و عجم میں زیتون روزمرہ غذا کا حصہ ہے۔ وہاں کاشت کاروں کی ایک بڑی تعداد اپنے دن کا آغاز، آج بھی اسی روایتی ناشتے سے کرتی ہے۔ یعنی ڈبل روٹی اور روغن زیتون، بعض تو خشک نوالہ منہ میں رکھ کر روغن زیتون کا گھونٹ بھر لیتے ہیں۔ آج بھی تیل قربان گاہوں اور لاتعداد مذہبی رسوم میں بطور نذر و نیاز اور مولودوں کی رسم بپتسما میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

ہزاروں سال پیشتر روغن زیتون کو اعلیٰ اور متبرک مقام حاصل ہو چکا تھا۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ زراعت و سبزی کی دیوی آئسس (ISIS) نے انسانوں کو اس کی کاشت اور استعمال کی ترغیب دی۔ یونانیوں کا اعتقاد ہے کہ زیتون عقل مندی و فراست کی دیوی اتھینا نے نوع انسانی کو عطا کیا اور دیوتاؤں کی نظر میں روغن زیتون کی حیثیت ایک حد درجہ مفید تحفے میں کی تھی۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے "زیتون کی قسم" کھا کر اس کی پاکیزگی پر گویا "مہر" ثبت کر دی۔ قرآن سمیت دیگر آسمانی صحیفوں میں بھی زیتون کے حوالے سے مخصوص پیرائے میں مذکور ہیں۔ مثلاً "تورات" میں عقل مند اور احمق کنواریوں کی تمثیل میں "روغن زیتون چراغ میں بطور ایندھن۔۔۔۔۔۔۔۔"

"صالح سامرین" کے قصہ میں "روغن زیتون بطور مرہم" اور پیغمبر الیاس کی حکایت "مفلس بیوہ کی خلاصی" میں "روغن زیتون بطور تجارتی جنس" کے موجود ہے۔

مشرقی ساحلوں کے کاشت کار گزشتہ دو ہزار برسوں سے خود رو یعنی جنگلی زیتونوں سے تیل حاصل کر رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان درختوں کو چھ ہزار سال پیشتر پالتو درختوں کا روپ دیا گیا تھا۔ فینیقین بحری جہاں گردوں نے زیتون کی کاشت کو یونان اور ہسپانیہ تک پھیلایا۔۔۔۔۔ اور یونانی اسے اٹلی لے گئے۔ عصر حاضر میں دنیا بھر کو چوہتر فیصد زیتون کا تیل یہی تین اقوام فراہم کرتی ہیں۔

ہسپانیہ کے جنوبی خطے اندلس میں روغن زیتون ایک مستحکم اور مضبوط تجارت ہے۔ صرف اندلس میں روغن زیتون ایک مستحکم اور مضبوط تجارت ہے۔ صرف اندلس میں ایک سو بانوے ملین یعنی انیس کروڑ بیس لاکھ گیلن تیل پیدا ہوتا ہے۔ یہ کل ہسپانیہ کے نوے فیصد انتقال کارگزاری ہے، ایک ماہر کی پیش گوئی ہے کہ "مستقبل قریب میں دنیا بھر کے مجموعی تیل کا نصف ہسپانیہ پیدا کرے گا۔"

عرب ممالک میں روغن زیتون کو خوراک کے علاوہ بالوں کی افزائش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ پاک و ہند میں اس تیل کا مصرف مالش اور درازی گیسو تک محدود ہے۔ اکثریت کا گمان ہے کہ تمام اقسام کا تیل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، کوئی کسی قدر تلخ۔

امریکیوں کو نہایت ہلکا اور لطیف تیل مرغوب ہے۔ بے ذائقہ، بے بو جبکہ میکسیکو والے کثیف اور چاشنی دار تیل کو ترجیح دیتے ہیں۔

جہاں تک عربوں کا تعلق ہے تو وہ سبز اور شیریں تیل کے رسیا ہیں، جسے وہ روٹیوں پر لگا کر کھاتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ تسلیم شدہ تیل فاضل پاکیزہ شمار ہوتا ہے۔ ہر قسم کی ملاوٹ سے قطعاً مبرا ہونا اس کی اولین شرط ہے۔ جسے براہ راست بنا حرارت کے مشینوں سے نچوڑا جاتا ہے۔

"فاضل پاکیزہ" کی نسبت کم خوش طبع اور قلیل غذائیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تاہم پھر بھی انہیں قبول عام کی سند حاصل ہے۔

آپکا ماہِ فروری کیسا 2013 رہے گا

فہرست

خصوصی عزیمت رجعت ونحوست سیارگان

يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَافِظُ يَا نَاصِرُ يَا مُعِيْنُ يَا شَافِيُ يَا كَافِيُ يَا قَادِرُ يَا كَرِيْمُ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ بِحَقِّ حٰمٓعٓسٓقٓ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اَحْفِظْنِيْ مِنَ النَّحُوْسَتُ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَر وَالْمُشْتَرِی وَالزُّحَل وَالزُّهرَه وَالعَطَارَد وَالمَرِيْخ وَالرَّاس وَالذَّنب بِحَقِّ يَا اَللّٰهُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اول وآخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ بچوں کیلئے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مندرجہ بالا عزیمت کو صرف **9** بار روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنالیں تو پھر کسی سیارے کی نحوست آپکے قریب نہ آئیگی۔ میری طرف سے آپکو اس عمل کی عام اجازت ہے۔ **دعا گو عامل شاہ زنجانی**

جن قارئین کو اپنی صحیح تاریخ پیدائش یاد نہیں وہ برج دو طرح سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک نام کے پہلے حرف سے اور دوسرا حروف ابجد سے۔ پھر تحقیق کریں کہ برج کا احوال ان پر صحیح بیٹھتا ہے۔

پہلا طریقہ آپکے نام نامی میں جو پہلا حرف ہے اسی سے برج بنتا ہے۔ ذیل میں دیئے گئے بارہ بروج میں سے اپنے نام کا پہلا حرف تلاش کر کے پہلے برج معلوم کریں پھر اسی برج کے تحت نیک وبدحالات ملاحظہ فرمائیں۔ ساتھ ہی اپنا ستارہ اور برج معلوم کر کے ادارہ آئینہ قسمت سے مفت مشورہ بذریعہ کوپن لے کر نگینہ پہنیں۔

دوسرا طریقہ اگر خدانخواستہ نام برج سے آپ کے حالات درست نہ آتے ہوں تو اس طریقہ سے اپنے نام کا برج معلوم کریں۔ اپنا مکمل نام اور اپنی والدہ کے نام کے حروف ابجد قمری سے اعداد نکالیں اور ان کو بارہ پر تقسیم کریں۔ اگر باقی **1** بچے تو برج حمل ہے۔ اگر **2** باقی بچے تو ثور۔ **3** بچے تو جوزا۔ **4** بچے تو سرطان۔ **5** بچے اسد۔ **6** بچے تو سنبلہ۔ **7** بچے تو میزان۔ **8** بچے تو عقرب۔ **9** بچے تو قوس۔ **10** بچے تو جدی۔ **11** بچے تو دلو اور اگر **0** باقی بچے تو برج حوت ہوگا۔

نوٹ صحیح تاریخ پیدائش معلوم ہو تو ان قواعد کو نظر انداز کر دیں۔

حروف ابجد قمری										
	ا	ب	ج	د	ہ	و	ز	ح	ط	ی
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ک	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	200
		ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ	
		300	400	500	600	700	800	900	1000	

Scanned with CamScanner